

براہ کرم زندگی کے ہر مہینے میں صرف ایک لاپر نشان لگائیں۔ حوالہ کی مدت کے تعین پر نوٹس:

بچہ	والدین کا مہینہ	والدین کا مہینہ	والدین کا مہینہ
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

اپنے فائدے کے مہینوں کی منصوبہ بندی کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ وفاقی وزارت برائے خاندان، بزرگ شہری، خواتین اور نوجوانوں کی درج ذیل ویب سائٹ پر معلومات اور والدین کے الاؤنس کیلکولیٹر حاصل کر سکتے ہیں:

<https://familienportal.de/familienportal/meta/egr>

والدین بنیادی والدین کے الاؤنس اور والدین کے الاؤنس پلس کے درمیان انتخاب کر سکتے ہیں۔ بنیادی والدین کے الاؤنس اور والدین کے الاؤنس پلس کو بھی ملایا جا سکتا ہے۔

جب تک آپ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد کام نہیں کرتے ہیں، عام طور پر بنیادی والدین کے الاؤنس کی سفارش کی جاتی ہے؛ اگر آپ حوالہ مدت کے دوران جزوقتی کام کرتے ہیں، تو والدین کے الاؤنس پلس کی اکثر سفارش کی جاتی ہے۔ والدین کے الاؤنس پلس کے حساب کتاب کی مثالیں وضاحتوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

حوالہ کے مہینے بچے کی زندگی کے مہینوں پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ کیلنڈر کے مہینے (نمبر 4 کے لیے وضاحتیں دیکھیں)۔

اگر زچگی کے فوائد کا حق ہے یا

سیکشن 192 پیراگراف 5 سزا 2 کے مطابق انشورنس فوائد

اگر انشورنس کنٹریکٹ ایکٹ موجود ہے، تو یہ اوقات ماں پر لاگو ہوتے ہیں۔

بنیادی والدین کے الاؤنس کے حوالہ کی مدت کے طور پر خود بخود۔ یہ ایک کی طرف جاتا ہے

ان مہینوں میں متعلقہ کمی جس میں والدین کے الاؤنس پلس

حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بنیادی والدین کا الاؤنس

بنیادی والدین کا الاؤنس بچے کی زندگی کے پہلے 14 مہینوں کے اندر ہی مل سکتا ہے۔

حاصل کیا جائے۔

والدین مشترکہ طور پر کل 12 ماہانہ ادائیگیوں کے حقدار ہیں۔

بنیادی والدین کا الاؤنس، جسے ایک دوسرے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ کی مدت 12 ماہ ہے اور کم از کم مدت 12 ماہ ہے۔

2 مہینے۔

والدین کا الاؤنس پلس

بنیادی والدین کے الاؤنس کے 1 ماہ کے بجائے، 2 ماہ کے والدین کے الاؤنس پلس وصول کیا جا سکتا ہے،

حوالہ مہینوں کی ایک طاق تعداد بھی ممکن ہے۔

والدین کے الاؤنس پلس کی رقم بنیادی والدین کے الاؤنس کا زیادہ سے زیادہ 50% ہے،

جو ریفرنس مہینے میں کمائی گئی آمدنی کو مدنظر رکھے بغیر واجب الادا ہے۔

کرے گا

دونوں والدین کا مشترکہ حق زیادہ سے زیادہ 24 ماہ ہے۔

ایک دوسرے کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ مدت جس میں والدین والدین کا الاؤنس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 24 ماہ ہے۔

سیسکریپشن کی کم از کم مدت 2 ماہ۔

زندگی کے 51 ویں مہینے کے بعد سے کوئی ایسا خلا نہیں ہونا چاہیے جس میں کم از کم ایک نہ ہو۔

والدین کو پیرنٹل الاؤنس پلس ملتا ہے۔

والدین کا الاؤنس پلس زیادہ سے زیادہ 32 ماہ کی عمر تک وصول کیا جا سکتا ہے۔

بن

ساتھی مہینے

پارٹنر مہینوں کے ساتھ، دونوں والدین کے اوپر دیے گئے کل حقدار میں 2 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

بنیادی والدین کے الاؤنس میں ماہ یا والدین کے الاؤنس پلس میں 4 ماہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

پارٹنر مہینوں سے فائدہ اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ سب

والدین کم از کم دو ماہ کے لیے والدین کے الاؤنس کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ

پیدائش کے بعد والدین کی کم از کم ایک آمدنی کم از کم 2

مہینے کم ہو گئے۔

اسٹنڈل والدین کے لیے، والدین کے الاؤنس کا ممکنہ استحقاق اسی کے مطابق بڑھتا ہے،

بشرطیکہ کم از کم 2 حوالہ مہینوں کے لیے آمدنی میں کمی ہو۔

اندراج

پارٹنرشپ بونوس (بنیادی پیرنٹل الاؤنس، پیرنٹل الاؤنس پلس اور پارٹنر مہینوں کے علاوہ)

دونوں والدین 2 سے 4 اضافی مہینوں کے والدین کے الاؤنس پلس کو پارٹنرشپ بونوس مہینوں کے طور پر وصول کر سکتے ہیں اگر وہ اس میں ہیں

کم از کم مسلسل 2 مہینے ایک ہی وقت میں 24 سے 32 گھنٹے فی ہفتہ اوسطاً ہر ماہ زندگی کے ساتھ

ملازم ہیں۔

اگر صرف ایک والدین بونوس مہینوں کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دوسرے والدین کو ابھی بھی بالکل اسی مدت کے لیے ایسا کرنا چاہیے

شراکتی بونوس مہینوں کے لیے اہلیت کے تقاضوں اور فی ہفتہ 24 سے 32 گھنٹے کی فی گھنٹہ رینج کو پورا کریں

برقرار رکھنا

اسٹنڈل والدین بھی زیادہ سے زیادہ 4 اضافی مہینوں کے بونوس کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر وہ خود 4 مہینوں میں

مسلسل حوالہ مہینوں میں زندگی کے اوسطاً ہر ماہ 24 سے 32 گھنٹے کے درمیان کام کیا جاتا ہے۔

اگر پارٹنرشپ بونوس مہینوں کے لیے درخواست دی جاتی ہے، تو دوسرے والدین کو "شراکت داری کے بونوس مہینوں کے لیے درخواست دینے کا اعلامیہ" (نمبر 6 دیکھیں) کو پُر کرنا ہوگا جب تک کہ

وہ ایک ہی وقت میں درخواست جمع نہ کرائیں۔

قبل از وقت پیدائش کے لیے اضافی مہینے

(نمبر 4 کے لیے وضاحتیں دیکھیں)

بہتر مہینے

ماہانہ کیلنڈر والدین کے الاؤنس پلس

ماہانہ کیلنڈر والدین کے الاؤنس پلس

بنیادی پیرنٹل الاؤنس اور پیرنٹل الاؤنس پلس کی وضاحتوں میں بیان کردہ زیادہ سے زیادہ ممکنہ فوائد کی مدت اس کے مطابق اضافی مہینوں کی تعداد کے حساب سے بڑھائی جاتی ہے جس کے آپ حقدار ہیں۔ سیسکریپشن کی کم از کم مدت 2 ماہ باقی ہے۔ پیرنٹل الاؤنس پلس کی مدت جس میں بچے کی عمر 32 ماہ تک ہو سکتی ہے۔

قبل از وقت پیدائش کی آخری تاریخ کا حساب لگانے کے لیے ابتدائی طور پر طے شدہ متوقع ڈیلیوری کا دن فیصلہ کن ہے۔ براہ کرم اس کا ثبوت میڈیکل سرٹیفکیٹ یا دائی یا میٹرنٹی نرس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ فراہم کریں۔ ایک اصول کے طور پر، پیدائش کی متوقع تاریخ زچگی کے ریکارڈ میں مل سکتی ہے۔

5	صرف ایک والدین کی طرف سے دیکھ بھال	
	<p>براہ کرم جواب دیں اگر کوئی والدین پارٹنر مہینوں اور/یا پارٹنرشپ بونس مہینوں کے لیے درخواست دے رہا ہے:</p> <p>□ میں واحد والدین ہوں □ براہ کرم منسلک کریں: ٹیکس کلاس II کے ساتھ موجودہ بے سلف یا ٹیکس آفس سے ثبوت جو آپ سیکشن 24 b ESTG کے مطابق امدادی رقم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔</p> <p>اگر آپ ٹیکس کلاس II کے ساتھ موجودہ بے سلف یا ٹیکس آفس سے سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو براہ کرم سنگل والدین کے لیے اعلان کو پُر کریں۔</p> <p>□ بچہ دوسرے والدین کے گھر میں کم از کم ایک تہائی رہتا ہے۔</p> <p>□ لگبھگ کا کم از کم ایک تہائی حصہ دوسرے والدین کے گھر میں بھی رہتا ہے، تو اینڈکس سنگل والدین کے لیے اعلان نہیں ہے کو بھرنے کے لیے، مزید ثبوت منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے والدین کے دستخط نمبر 20 دیکھیں: حتمی اعلان درکار ہے۔</p>	
	<p>□ دوسرے والدین کی طرف سے بچے کی دیکھ بھال ناممکن ہے (خاص طور پر بیماری یا موت کی وجہ سے) یا بچے کی صحت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ □ براہ کرم متعلقہ ثبوت منسلک کریں۔</p>	
6	<p>شراکتی بونس مہینوں کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کے بارے میں اعلان</p> <p>یہ اعلامیہ (AC) دوسرے والدین (درخواست دہندہ کو نہیں) کے ذریعے مکمل کیا جانا چاہیے۔ اگر دوسرے والدین کی طرف سے درخواست پہلے ہی جمع کرائی گئی ہے، تو اس اعلان کو پُر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔</p>	
	دوسرے والدین کی ذاتی معلومات	
	آخری نام:	پہلا نام:
	پیشہ:	
اے	<p>قومیت:</p> <p>□ جرمن</p> <p>□ EU/EEA ملک/سوئٹزرلینڈ: _____</p> <p>□ میں نقل و حرکت کی آزادی کا حقدار ہوں اور میری نقل و حرکت کی آزادی کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی کارروائی جاری نہیں ہے۔</p> <p>□ دیگر: _____ براہ کرم اپنے پاسپورٹ کی ایک کاپی (بشمول رہائشی اجازت نامہ) یا امیگریشن اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔</p>	
	<p>رہائش / معمول کی رہائش:</p> <p>□ میری پیدائش کے بعد سے _____ (دن، مہینہ سال) سے</p> <p>وچرب سے □ _____</p>	
ب	<p>شراکتی بونس کے مہینوں کے دوران بچے کے ساتھ رہنے کے بارے میں معلومات</p> <p>□ میں ایک گھر میں اس بچے کے ساتھ رہتا ہوں جس کے لیے والدین کے الاؤنس کی درخواست کی جا رہی ہے۔</p> <p>□ میں خود بچے کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہوں۔</p>	
سی	<p>شراکتی بونس مہینوں میں کام کے اوقات کا اعلان</p> <p>بفتر وار گھنٹے میں _____ میں کروں گا _____ ماہانہ اوسط مدت کے دوپہانہ فائدہ مند کام کریں۔</p> <p>□ ایک بار منظوری کے بعد اپنے جزوقتی کام کا ثبوت فراہم کریں۔</p> <p>(ماہانہ اوسط کا حساب لگانے کے لیے، بچے کی زندگی کا مہینہ استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ کیلنڈر کا مہینہ)</p> <p>ایک نوٹس:</p> <p>پارٹنرشپ بونس مہینوں کی منظوری کے لیے، آپ کو لازمی ہے۔</p> <p>□ ایک ہی وقت میں دونوں والدین</p> <p>□ زندگی کے مسلسل 2 سے 4 مہینوں میں</p> <p>□ ماہانہ اوسطاً 24 اور 32 گھنٹے فی ہفتہ کے درمیان</p> <p>فائدہ مند روزگار کا بیچھا کریں، براہ کرم اچھے وقت میں اپنے والدین کے الاؤنس کی درخواست جمع کروانا یقینی بنائیں۔</p>	
7	دوسرے والدین کے حوالہ کی مدت کا اندراج	
	<p>□ دوسرے والدین دعویٰ دائر کرتے ہیں:</p> <p>بنیادی والدین کے الاؤنس کے _____ حوالہ مہینے</p> <p>والدین کے الاؤنس پلس کی وصولی کے _____ ماہ</p>	<p>□ درخواست بعد کی تاریخ میں جمع کرائی جائے گی۔</p> <p>□ درخواست منسلک ہے۔</p>
	□ دوسرے والدین پہلے ہی کاروباری نام کے تحت والدین کا الاؤنس وصول کر رہے ہیں۔	
	□ ملازمت کا رشتہ/سرگرمی	
	<p>□ میرا جرمنی میں روزگار کا رشتہ ہے یا میں جرمنی میں خود ملازم ہوں۔</p> <p>□ میرا بیرون ملک ملازمت کا رشتہ ہے یا بیرون ملک خود ملازمت میں ہوں،</p> <p>ملازمت کا ملک: _____</p> <p>□ میرے ساتھی کا جرمنی میں روزگار کا رشتہ ہے یا وہ جرمنی میں خود ملازم ہے۔</p> <p>□ میرے ساتھی کا بیرون ملک روزگار کا رشتہ ہے یا وہ بیرون ملک خود ملازم ہے۔</p> <p>ملازمت کا ملک: _____</p>	

	<p>▢براہ کرم ایک آجر کا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں جس میں کہا گیا ہو کہ آپ کووڈ-19 ویائی مرض کی وجہ سے ہیں۔ آپ جن علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں کم آمدنی اخراج کے لیے مہینوں کی درخواست کی گئی، اور ایک کم آمدنی کا ثبوت</p> <p>▢مجھے Covid-19 ویائی مرض کی وجہ سے ہے۔ یکم مارچ 2020 سے 31 دسمبر 2021 کے درمیان آمدنی میں کمی کا سامنا کرنا پڑا اور</p> <p>درخواست کریں کہ درج ذیل کیلنڈر مہینوں کو تشخیص کی مدت سے خارج کر دیا جائے:</p> <hr/> <p>▢میرے پاس یہ Covid-19 ویائی مرض کی وجہ سے ہے۔ میرے بڑے بچے کے لیے والدین کے الاؤنس کی ادائیگی ملتوی کر دی گئی ہے۔ میں نے اصل میں ان مہینوں کی منصوبہ بندی کی تھی کہ میں 14 سال کا ہونے سے پہلے ہوں۔ بڑے بچے کی زندگی کا مہینہ۔ میں اگلے مہینوں میں درخواست کرتا ہوں۔ تشخیص کی مدت کو خارج کر دیا جائے گا:</p> <hr/>
14	<p>زچگی کا فائدہ / آجر سبسڈی / موازنہ فوائد</p>
	<p>ماں کو درج ذیل فوائد حاصل ہونے یا حاصل ہونے:</p>
	<p>▢برائے مہربانی زچگی کا فائدہ بطور جاری ادائیگی کریں۔</p>
	<p>زچگی کی چھٹی کی مدت کے دوران آجر کی سبسڈی ▢ہاں ▢نہیں ▢براہ کرم آجر سے ایک سرٹیفکیٹ فراہم کریں (لے رول/ لے رول)۔</p>
	<p>بچے کی پیدائش کے بعد سروس یا امیدوار کی تنخواہ ▢ہاں ▢نہیں ▢براہ کرم تنخواہ کی اطلاع اور سرٹیفکیٹ فراہم کریں تحفظ کی مدت کے بارے میں اپنے آجر کو جمع کروائیں۔</p>
	<p>▢ہاں ▢نہیں ▢براہ کرم سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ غیر ملکی خاندانی فوائد</p>
15	<p>حوالہ مدت میں سرگرمی/آمدنی</p>
	<p>حوالہ مدت بچے کی پیدائش کے بعد کی مدت ہے جس کے لیے والدین کے الاؤنس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حوالہ کے مہینے بچے کی زندگی کے مہینوں پر مبنی ہوتے ہیں، کیلنڈر کے مہینوں پر نہیں۔</p>
	<p>▢میرے پاس والدین کے الاؤنس کی مدت کے دوران کوئی فائدہ مند ملازمت نہیں ہے۔ اور خود روزگار یا ملازمت سے کوئی آمدنی حاصل نہ کریں۔</p>
	<p>▢براہ کرم آجر سے پارٹ ٹائم کام کے آغاز اور تعداد کے بارے میں تصدیق فراہم کریں۔ فی ہفتہ گھنٹے اور متوقع آمدنی کا ثبوت</p> <p>▢میں ریفرنس کی مدت کے دوران ملازم ہوں۔ ہفتہ وار گھنٹے۔</p> <p>تب سے _____ ی ساتھ _____ تب سے _____ ی ساتھ _____</p>
	<p>▢براہ کرم تنخواہ کی سلیپس پیش کریں۔ روزگار (اجرت، تنخواہ، منی جاب/مڈی جاب سے ہونے والی آمدنی، ٹرانزیشن فیس، انتظار کا معاوضہ، وغیرہ، مالیاتی فائدہ منڈا کمپنی کی کار کے نجی استعمال کے ذریعے)</p>
	<p>▢میں ریفرنس کی مدت کے دوران چھٹی لیتا ہوں: بقتہ وار گھنٹے۔ _____ کے ساتھ ایک سرگرمی سے تعطیل کا نتیجہ</p> <p>▢براہ کرم اپنے آجر سے تصدیق فراہم کریں۔ ▢براہ کرم تنخواہ کی پرچی پیش کریں۔</p> <p>جس تک _____ سے</p>
	<p>▢براہ کرم ثبوت منسلک کریں۔ ▢میں اندر ہوں۔ (اعلیٰ) اسکولی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت ▢پیشہ ورانہ تربیت کی پیمائش _____ متوقع اختتام: _____ تب سے:</p>
	<p>▢براہ کرم خود ملازمت والے لوگوں کے لیے اعلامیہ پُر کریں۔ ▢حوالہ کی مدت کے دوران میں خود ملازم ہوں، کاروبار چلا رہا ہوں، یا زرعی اور جنگلات کی سرگرمی سے بعد سے: _____ کے ساتھ ہفتہ وار گھنٹے۔ _____</p>
	<p>▢براہ کرم خود ملازمت والے لوگوں کے لیے اعلامیہ پُر کریں۔ ▢مجھے حوالہ مدت کے دوران ایک سے آمدنی ہے۔ خود ملازمت کی سرگرمی، تجارتی کاروبار سے یا زرعی اور جنگلات (اس میں منفی آمدنی بھی شامل ہے)</p>
	<p>▢براہ کرم موجودہ فائدہ کی اطلاع شامل کریں۔ شارٹ ٹائم ورکنگ الاؤنس آخری سے سلیپ شامل کریں (ادائیگی کی رقم میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر دی جانی چاہیے)</p> <p>▢میں ریفرنس کی مدت کے دوران آمدنی کے متبادل فوائد حاصل کروں گا۔ (مثال کے طور پر بے روزگاری کا فائدہ، اپنشن، مختصر مدت کے کام کے فوائد، وغیرہ)</p> <p>سروس کی قسم: _____ چونکہ: _____ (دن مہینہ سال)</p>

16	زیادہ بچے
گھر میں رہنے والے تمام بچوں کی تعداد: _____	
بہن بھائیوں کے بارے میں معلومات، جہاں تک یہ بہن بھائی بونس کے لیے اہم ہیں: (جس بچے کو بونس دیا جاتا ہے، براہ کرم نمبر 16 کی وضاحتیں دیکھیں۔)	
نام کا پہلا نام: _____ تاریخ پیدائش: _____ بچپن کا رشتہ: _____ والدین کے الاؤنس فائل نمبر: _____ کیا بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے: <input type="checkbox"/> ہاں قبل از وقت پیدائش (کم از کم 6 ہفتے) <input type="checkbox"/> ہاں	نام کا پہلا نام: _____ تاریخ پیدائش: _____ بچپن کا رشتہ: _____ والدین کے الاؤنس فائل نمبر: _____ کیا بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے: <input type="checkbox"/> ہاں قبل از وقت پیدائش (کم از کم 6 ہفتے) <input type="checkbox"/> ہاں
مذکورہ بالا بچوں میں سے ایک معذور ہے۔ براہ کرم معذوری کی ڈگری کا ثبوت فراہم کریں۔	

آمدنی کی حد																						
والدین کے الاؤنس کا کوئی حق نہیں ہے اگر انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 2 پیراگراف 5 کے تحت قابل ٹیکس آمدنی بچے کی پیدائش سے پہلے آخری مکمل تشخیص کی مدت میں ایک اہل فرد (واحد والدین) کے لیے 250,000€ سے زیادہ ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ جوڑوں کے لیے 300,000€																						
یہ تعین ٹیکس قانون کے تحت سات قسم کی آمدنی سے حاصل ہونے والی کل آمدنی پر مبنی ہے (زراعت اور جنگلات سے کل آمدنی، کاروبار، خود روزگار، روزگار، سیکشن 22 ESTG کے مطابق سرمائے کے اثاثے، رینٹل اور لیزنگ اور دیگر آمدنی)																						
سنگل والدین کے لیے	جوڑے ہرادریوں کے لیے																					
پیدائش سے پہلے سال میں میری آمدنی...	پیدائش سے پہلے سال میں ہماری آمدنی...																					
<table border="1"> <tr> <td>یقیناً نہیں۔</td> <td>ایک سے زیادہ</td> <td>€250,000</td> </tr> <tr> <td>ایک سے زیادہ</td> <td>قابل ٹیکس سے آمدنی</td> <td>€250,000</td> </tr> <tr> <td>قابل ٹیکس سے آمدنی</td> <td>€250,000</td> <td>€250,000</td> </tr> </table>	یقیناً نہیں۔	ایک سے زیادہ	€250,000	ایک سے زیادہ	قابل ٹیکس سے آمدنی	€250,000	قابل ٹیکس سے آمدنی	€250,000	€250,000	<table border="1"> <tr> <td>مستوقع</td> <td>ایک سے زیادہ</td> <td>€300,000</td> </tr> <tr> <td>ایک کے علاقے میں</td> <td>قابل ٹیکس سے آمدنی</td> <td>€300,000</td> </tr> <tr> <td>ٹیکس لگایا جائے</td> <td>€300,000</td> <td>€300,000</td> </tr> <tr> <td>سے آمدنی</td> <td>€300,000</td> <td>€300,000</td> </tr> </table>	مستوقع	ایک سے زیادہ	€300,000	ایک کے علاقے میں	قابل ٹیکس سے آمدنی	€300,000	ٹیکس لگایا جائے	€300,000	€300,000	سے آمدنی	€300,000	€300,000
یقیناً نہیں۔	ایک سے زیادہ	€250,000																				
ایک سے زیادہ	قابل ٹیکس سے آمدنی	€250,000																				
قابل ٹیکس سے آمدنی	€250,000	€250,000																				
مستوقع	ایک سے زیادہ	€300,000																				
ایک کے علاقے میں	قابل ٹیکس سے آمدنی	€300,000																				
ٹیکس لگایا جائے	€300,000	€300,000																				
سے آمدنی	€300,000	€300,000																				
ٹیکس کی تشخیص ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔	ٹیکس کی تشخیص منسلک ہے۔																					

18	قانونی نمائندہ یا دیکھ بھال کرنے والا
قانونی نمائندوں یا دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے، درج ذیل اضافی معلومات درکار ہیں: (اگر ضروری ہو تو سرپرستی کا ثبوت شامل کریں۔)	
آخری نام: _____	پہلا نام: _____
گلی، مکان نمبر: _____	زپ کوڈ رہائشی پتہ: _____
_____	_____
_____	_____

19	اشارے
<p>براہ کرم COVID-19 وبائی مرض سے متعلق خصوصی ضوابط کو بھی نوٹ کریں۔ آپ اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ COVID-19 وبائی امراض کی وجہ سے والدین کے الاؤنس کے بارے میں وضاحتیں اور براہ کرم ملتوی کرنے کی درخواست کو بھی نوٹ کریں کوویڈ 19 کی وبا کی وجہ سے۔</p> <p>آپ جس معلومات کی درخواست کرتے ہیں وہ آپ کی درخواست پر فیصلے کے لیے ضروری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہے 67a سماجی ضابطہ کی دسویں کتاب (SGB X) اور BEEG کی دفعات کے ساتھ ساتھ</p> <p>EU جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن (EU-GDPR) کے مطابق پروسیس اور اسٹور کیا گیا۔ تفصیلی معلومات آپ اپنے ذمہ دار والدین کے الاؤنس آفس سے EU GDPR پر معلوماتی شیٹ میں اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔</p> <p>کوئی بھی جو سماجی فوائد کے لیے درخواست دیتا ہے، اسے سماجی ضابطہ کی پہلی کتاب (SGB I) کے سیکشن 60 کے مطابق، حقائق پر مبنی وضاحت کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے۔</p> <p>ضروری حقائق بیان کریں اور مطلوبہ ثبوت فراہم کریں، بصورت دیگر خدمت فراہم کنندہ کر سکتا ہے۔</p> <p>سیکشن 66 SGB I کے مطابق مکمل یا جزوی طور پر خدمات فراہم کرنے میں ناکامی۔</p> <p>کیا والدین کا الاؤنس غلط، نامکمل، چھوڑی گئی یا تاخیری معلومات یا اطلاعات کی وجہ سے غیر منصفانہ ہے؟</p> <p>دی گئی ہے، غلط طریقے سے حاصل کی گئی رقم کا دوبارہ دعویٰ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں سیکشن 14 BEEG کے مطابق (فائل ریگولیشن) سیکشن 60 SGB I کے ساتھ مل کر، انتظامی جرم کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔</p> <p>آپ درخواست میں بیان کردہ حالات میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر والدین کے الاؤنس آفس کو دینے کے پابند ہیں۔</p>	
مکالمہ کرنا۔	

میں اتفاق کرتا ہوں کہ والدین کے الاؤنس کا دفتر ٹیکس آفس سے مزید معلومات حاصل کر سکتا ہے اگر یہ فیصلے کے لیے ضروری ہو۔ ہاں نہیں۔

یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ مندرجہ بالا معلومات اور آمدنی کا اعلان درست اور مکمل ہے اور یہ کہ والدین کے الاؤنس کی ادائیگی کے لیے مزید کوئی درخواست اسی مدت کے لیے کسی اور اتھارٹی کو نہیں دی جائے گی جس کے لیے درخواست میں والدین کے الاؤنس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ .

نوٹ: سائھی یا دوسرے والدین کے دستخط درکار ہیں۔ دستخط کے ساتھ حوالہ کی مدت کے تعین پر اتفاق کیا جاتا ہے اور خاندانی آمدنی سے متعلق معلومات کی تصدیق کی جاتی ہے۔

جگہ، تاریخ

درخواست گزار کے دستخط

سائھی کے دستخط
یا دوسرے والدین

قانونی دستخط
نمائندہ / دیکھ بھال کرنے والا

براہ کرم اسٹیبلڈ یا سٹیبلڈ ٹیوت منسلک نہ کریں!